

314921 - روزوں کے فدیے میں مساکین کو یخنی پیش کی جا سکتی ہے؟

سوال

میری اہلیہ گزشتہ رمضان المبارک میں روزے نہیں رکھ پائی تھی تو میں نے اپنی اہلیہ کا فدیہ دینے کا عزم کیا ہے، اس کے لیے میں نے 30 مساکین کے کھانے کے لیے مکمل رقم ادا بھی کر دی ہے، یہ رقم میں نے اپنے علاقے میں روزے داروں کے لیے افطاری کا انتظام کرنے والے شخص کو تھمائی ہے، تو چونکہ افطاری کے لیے کھانے پینے کی اشیا کافی مقدار میں موجود ہیں اس شخص نے گوشت کی مرچوں کے ساتھ یخنی تیار کرنے کا فیصلہ کیا، یہ یخنی گرما گرم ابلے ہوئے گوشت کے ساتھ پیش روزے داروں کو پیش کی جائے گی، تو کیا اس یخنی کو روزوں کے فدیے میں شمار کرنا ممکن ہو گا؟ کیونکہ حقیقی معنوں میں یہ کھانا تو نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ انتظامیہ کے اس فرد نے اس یخنی کو کھانا شمار نہیں کیا، تو اگر یہ کھانا شمار نہیں ہو گا تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟

پسندیدہ جواب

الحمد لله.

اول: اگر آپ کی اہلیہ نے کسی ایسی بیماری کے باعث روزے نہیں رکھے جس سے شفا یابی کی امید کی جا سکتی ہے، اور آپ کی اہلیہ کو بعد میں اپنے روزوں کی قضا دینے کا موقع بھی ملتا ہے تو ان پر فدیے کی شکل میں کھانا کھلانا لازمی ہے ہی نہیں! اگر کھانا کھلا بھی دے تو کفایت نہیں کرے گا، بلکہ انہیں لازمی طور پر روزہ ہی رکھنا ہو گا۔

دوم:

اگر کوئی بڑھاپے کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پایا، یا ایسے مرض کی وجہ سے نہیں رکھ سکا جس سے شفا یابی کی امید نہیں ہے تو ایسے شخص کی طرف سے ہر روزے کے عوض ایک مسکین کو کھانا کھلایا جائے گا؛ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مَسْكِينٍ

ترجمہ: اور ان لوگوں پر جو روزہ رکھنے کی استطاعت نہیں رکھتے ان پر ایک مسکین کو کھانا کھلانا لازم ہے۔ [البقرة:184]

اسی طرح صحیح بخاری : (4505) میں ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ : "یہ آیت منسوخ نہیں ہے، اس سے مراد ایسے بوڑھے لوگ اور عورتیں مراد ہیں جو روزہ رکھنے کی استطاعت نہیں رکھتے تو وہ ہر دن کے

عوض ایک مسکین کو کھانا کھلائیں۔"

اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ صحیح بخاری میں لکھتے ہیں: "باب ہے اللہ تعالیٰ کے فرمان: **أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مَسْكِينٍ** ترجمہ: [روزے] گنتی کے چند دن ہیں، تو تم میں سے جو شخص ان دنوں میں بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دیگر ایام سے گنتی پورے کرے، جبکہ روزے کی استطاعت نہ رکھنے والوں پر ایک مسکین کو کھانا کھلانا لازم ہے۔ [البقرة:184] --- جبکہ بوڑھا شخص اگر روزہ رکھنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو اس صورت میں سیدنا انس رضی اللہ عنہ نے بڑھاپے میں ایک یا دو سال کھانا کھلایا ہے، ہر دن کے عوض ایک مسکین کا روٹی یا گوشت کی شکل میں کھانا کھلایا اور روزہ نہیں رکھا۔"

دائمى فتوى كمىثى كے فتاوى: (10/198) میں ہے كہ:

"جب ماہر معالجین یہ فیصلہ کریں كہ آپ كو جس مرض كا سامنا ہے اس كى وجہ سے آپ روزہ نہیں ركھ پائیں گے نیز اس مرض سے شفا يابى كى امید بھی نہیں ہے؛ تو آپ پر ہر دن كے عوض آدھا صاع تقريباً سوا كلو كھجور وغيرہ كى شكل میں علاقائى غذائى جنس فديے میں دینا ضرورى ہے، اس صورت میں آپ سابقہ اور آئندہ كے روزوں كا فدیہ دیں گے، چنانچہ اگر آپ كسى مسكین كو رات كا كھانا یا دوپہر كا كھانا اتنے دنوں كى تعداد كے برابر كھلا دیں جتنے آپ پر روزے ہیں تو یہ آپ كے ليے كافی ہو جائے گا، جبكہ آپ كے ليے نقدى كى صورت میں فدیہ دینا كافی نہیں ہو گا۔" ختم شد

سوم: كھانا كھلانے كے ليے واجب مقدار میں اہل علم كے ہاں مختلف اقوال ہیں، تو جمہور اہل علم اس بات كے قائل ہیں كہ ایک مد یعنی ایک صاع كا چوتھائی حصہ واجب ہے۔ جبكہ حنبلى فقہائے كرام كہتے ہیں كہ گندم كا ایک مد، جبكہ گندم كے علاوہ اناج ہو تو آدھا صاع دینا واجب ہے، تو آدھا صاع تقريباً سوا كلو كا بنتا ہے۔

جیسے كہ "الموسوعة الفقهية" (67 /32) میں ہے كہ:

"مالكى اور شافعى فقہائے كرام اس بات كے قائل ہیں كہ فديے میں روزانہ كے عوض ایک مد اناج دیا جائے گا، اسى كے امام طاؤوس، سعید بن جبیر، سفیان ثورى، اور اوزاعى قائل ہیں۔

جبكہ احناف اس بات كے قائل ہیں كہ فدیہ میں واجب مقدار كھجور یا جو كا ایک صاع ہے، جبكہ گندم كا آدھا صاع ہے، چنانچہ روزہ خورى كے ایام كے برابر ایک مسكین كو كھانا كھلایا جائے گا۔

جبكہ حنبلى فقہائے كرام كے ہاں گندم كا ایک مد جبكہ كھجور یا جو كا آدھا صاع فدیہ میں دینا ضرورى ہے۔" ختم شد

تاہم اگر آپ مساكین كو رات كا یا دن كا كھانا كھلا دیں تو یہ كافی ہو جائے گا جیسے كہ پہلے سیدنا انس رضى اللہ عنہ سے گزر چكا ہے۔

اس بنا پر: اگر یہ یخنی رات یا دوپہر کے کھانے کے قائم مقام نہیں ہوتی بلکہ یخنی بنیادی کھانے کے کا معمولی حصہ شمار ہوتی ہے یا اس سے پہلے ہوتی ہے تو آپ کا دیا ہوا فدیہ نا کافی ہو گا، آپ کو دوبارہ فدیہ دینا ہو گا۔

آپ جمہور کے موقف کے مطابق ہر مسکین کو 750 گرام چاول دے دیں۔ آپ سارا فدیہ ایک مسکین کو بھی دے سکتے ہیں اور متعدد مساکین میں تقسیم بھی کر سکتے ہیں۔

یہاں یہ بات بھی واضح رہے کہ معتکفین یا روزہ داروں کی افطاری کروانا فدیہ ادا کرنے کے لیے نا کافی ہو گا، ہاں تب ٹھیک ہو گا جب تمام معتکفین اور روزے دار مساکین ہوں۔

لیکن اگر ان معتکفین کے پاس اتنی مقدار میں کھانا موجود ہے کہ انہیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے تو پھر انہیں فدیے کا کھانا دینا کافی نہیں ہو گا؛ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سابقہ آیت میں مساکین کو کھانا کھلانے کا حکم دیا ہے۔

اس لیے فدیہ خصوصی طور پر صرف مساکین کو ہی دیا جائے گا، کسی اور کو دینا جائز نہیں ہے۔

واللہ اعلم